


رہنمائے حج

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ (متفق عليه)


ترجمہ:- حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بیشک تمام تعریفیں
تیرے لئے ہیں اور تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں اور تو ہی تمام چیزوں کا مالک ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔

عرفات کے دن کی مسنون دعا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الترمذی، حسنہ الألبانی)




نوٹ: افراد کرنے والا 8 ذوالحجہ کو طواف
قدوم کے بغیر سیدھا منی جاسکتا ہے۔
لیکن طواف افاضہ کے ساتھ سعی بین
الصفاء والمرہ ضروری ہے۔ عرفات کے
دن اور منی کے دنوں میں جتنا بھی اللہ
کا ذکر کیا جائے بہتر ہے۔
12 ذوالحجہ کو اگر کوئی منی سے جانا چاہتا
ہے تو کنکریاں زوال کے بعد مارنے سے
فراغت پر غروب آفتاب سے پہلے پہلے
منی کی حدود سے نکلنا لازم ہے۔



حاجی کے لئے مسنون ہے کہ وہ
مزدلفہ سے کنکریاں چن لے یا وہ
راستے سے بھی چن سکتا ہے۔


حج کے شروط، ارکان، واجبات، سنن، مواقیت اور مناسک



افراد (قربانی لازم نہیں)

قران (قربانی لازم)

تمتع (قربانی لازم)



ملاحظہ نہ۔ کوئی رکن ارکان میں سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ کوئی واجب چھوٹ جائے تو سہم لازم ہے۔ کسی مسنون عمل کو حقیر نہ سمجھیں حسب استطاعت سنت کے مطابق اعمال بجالائیں۔

صرف اکیلے حج کا ہی احرام باندھنا اور حج کے لئے ہی تلبیہ پڑھنا اگر پہلے طواف اور سعی نہیں کی تو طواف افاضہ کے ساتھ سعی بھی کرنا۔

اکٹھا عمرہ اور حج کا احرام باندھنا اور حج اور عمرہ کا تلبیہ پڑھنا عمرہ کے بعد نہ بال کٹوانا اور نہ ہی احرام کھولنا ہے۔

عمرہ کا احرام باندھنا اور سعی کے بعد بال کٹوانا اور احرام کھول دینا پھر دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے لئے تلبیہ پڑھنا۔



آڈیو شرح

طریقہ حج۔ (1) میقات سے احرام۔ (2) تمتع کے لئے طواف، سعی، بال کٹوانا اور احرام کھولنا۔ (3) قران اور افراد کے لئے صرف طواف۔ (4) تمتع کے لئے ۸ ذوالحجہ کو احرام۔ (5) ۸ ذوالحجہ کو منیٰ میں جانا اور ۵ نمازیں ادا کرنا (ظہر سے ابتداء کرنا)۔ (6) ۹ ذوالحجہ کو بعد از نماز فجر عرفات کو جانا۔ (7) ۹ ذوالحجہ کو ہی سورج غروب کے بعد عرفات سے نکلنا اور مزدلفہ میں رات گزارنا۔ (8) ۱۰ ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ سے نکل کر منیٰ جانا اور بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا۔ قربانی کرنا۔ بال کٹوانا۔ احرام کھولنا غسل کے بعد طواف اور سعی کرنا پھر منیٰ کو رات واپس آجانا۔ (9) ۱۱ ذوالحجہ کو زوال (سورج ڈھلنے) کے بعد چھوٹے پھر درمیانے اور پھر بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا اور رات منیٰ میں گزارنا۔ ۱۲ ذوالحجہ کو زوال کے بعد بالترتیب تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا اور واپس گھر جانے کے لئے (منیٰ غروب آفتاب سے پہلے چھوڑنا) درنا ۱۳ ذوالحجہ کو زوال کے بعد کنکریاں مارنا اور پھر طواف الوداع کرنا۔

مزید تفصیلات کے لئے www.goo.gl/qQr9gr پر جائیں

رہنمائے حج

